



National Officers  
**ACADEMY**

## English Translation Test-2

Time Allowed: 40Minutes

Note:

1. Assignment must be handwritten.
2. Upload it in "Quiz/Assignment" section, otherwise it will not be checked.

Name: \_\_\_\_\_

Batch: \_\_\_\_\_

Campus: \_\_\_\_\_

Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.

(10)

تاریخ ایسے کامیاب لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز انتہائی مشکل ترین حالات سے لیا لیکن آگے چل کر وہ دنیا کے کامیاب اور نامور شخصیات میں شمار ہوئے۔ کامیابی، عزت اور شہرت آپ کو کبھی پلیٹ میں رکھ نہیں دی جاتی صرف دولت ہی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دی جاسکتی ہے اس کے لیے ہی ایک شرط لازم ہے کہ وہ آپ کے آباؤ اجداد کے پاس جائیداد ہونی چاہیے پھر ہی آپ کو دولت ملے گی۔ دولت سے آپ دنیاوی لوازمات تو خرید سکتے ہیں لیکن خوشی نہیں خرید سکتے۔ کبھی کبھی انسان کو عزت کمانے میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں ذلت کمانے میں یا متنازع بننے میں ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔

# Translation

History is full of <sup>those</sup> such great people who faced a lot of troubles in their lives, but, eventually, they became well known / Now they <sup>are</sup> remembered <sup>as</sup> in famous and well known personalities.

Except wealth, one cannot achieve success, dignity and respect without doing hard work. But for wealth, there is also <sup>condition</sup> clause that there should be property from which one can be benefited. A person can buy the world's luxury with wealth but cannot buy happiness. Offandem, a man spends his full life to achieve respect but a single moment is enough for him to be a controversial.